

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 4

البقرة: آیات: 87-88

صفحہ - 12، اشارہ - d

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی

سوال: کیا آپ نے گوگل کو ٹز کیا؟

.B نہیں


.A جی ہاں

.D آئندہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

.C ضرورت نہیں


سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔



ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو بائیں
ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔



اعادہ



جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن
قاعدہ اور میثاق بھول کر

جاہل
چند دن
قاعدہ
میثاق

بارہواں صفحہ

میثاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب پر ایمان؟

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

2	البقرة 2	12	آل عمران 1
2	وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ		
5	أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾		
7	ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ		
4	مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ		
6	يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ		
3	أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ		
1	مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ		
3	الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا		
1	تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ		
4	فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾		
2	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ		
7	وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ		
2	أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ		
5	فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ		
1	بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾		
6			
8			
2			
4			
2			
7			
1			

بارہویں صفحے کے اشارات
TPI کے ذریعہ

میتاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب پر
ایمان؟

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے
سلوک

میثاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب

موسیٰ و عیسیٰ



تعارف

چوتھا اشارہ

وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
 مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
 يَأْتُواكُمُ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
 مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

چوتھا اشارہ

پچھلی آیتوں سے تعلق

اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بد اعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک

2	البقرة 2	12	آية 1
2	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ		
5	أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾		
5	ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ		
7	مَنْ دِيَارِهِمْ تَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ		
4	يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ		
6	أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ		
3	مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ		
6	الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا		
2	تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ		
2	فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾		١٠ ع ١٠
2	وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكُتُبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ		
5	وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ		
6	أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ		
8	فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ		
2	بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾		

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقَا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اسباق

• بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بد تمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔

• انہوں نے حضرت محمد ﷺ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔
• یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔

• حضرت جبریلؑ اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے۔ انہیں ”روح القدس“ بھی کہا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ

فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ ۚ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

موسیٰ و عیسیٰؑ اور
رسولوں سے سلوک

قرآن کتنا آسان ہے! آپ کو ہر لائن میں تقریباً 1 نیا لفظ سیکھنا ہے۔
آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔

قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنجز اور ان کا حل:

- الفاظ کے معانی: اشارات اور فقروں کی مدد سے سیکھیے۔
- گرامر: ٹی پی آئی اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیے۔



لفظی و فقہی ترجمہ اور شرح

- فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔
- نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی دو مرتبہ پریکٹس کریں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ^ز

اور البتہ تحقیق	ہم نے دی	موسیٰ کو	کتاب	اور ہم نے پے در پے بھیجے	اُس کے بعد	کئی رسول
-----------------	----------	----------	------	--------------------------	------------	----------

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ^ط

اور ہم نے دی	مریم کے بیٹے عیسیٰ کو	کھلی نشانیاں	اور ہم نے مدد کی اُس کی	روح القدس (جبریل) کے ذریعہ،
--------------	-----------------------	--------------	----------------------------	--------------------------------

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

کئی رسول

اُس کے بعد

اور ہم نے پے در پے بھیجے

کتاب

موسىٰ کو

ہم نے دی

اور البتہ تحقیق

موسىٰ و عيسىٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَأْتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

روح القدس (جبرئیل) کے
ذریعہ،


اور ہم نے مدد کی
اُس کی

کھلی نشانیاں

مریم کے بیٹے عيسىٰ کو

اور ہم نے دی

R-5s-10-Loud



وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ^ز

اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ہم نے پے در پے بھیجے اُس کے بعد کئی رسول

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ^ط

اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اُس کی روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ،

- گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ بُرے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ بُرا رویہ حضرت موسیٰ کے بعد دوسرے انبیاء کرام جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم السلام وغیرہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ^ز

اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ہم نے پے در پے بھیجے اُس کے بعد کئی رسول

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ^ط

اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اُس کی روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ،

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

- حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف طاقت ور معجزے دے کر بھیجے گئے تھے جو خود ان کی ولادت سے پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانوں کی شکل میں معجزات بھی دیے گئے تھے، جیسے بیمار کو اچھا کر دینا، اللہ کے حکم سے مردہ کو دوبارہ زندہ کر دینا، وغیرہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ^ز

اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ہم نے پے در پے بھیجے اُس کے بعد کئی رسول

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ^ط

اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اُس کی روح القدس (جبریل) کے ذریعہ،

• رُوحُ الْقُدُسِ: یعنی مقدس روح۔ یہ خطاب حضرت جبریل کو اعزاز کے طور پر دیا گیا۔

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ^ز

اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ہم نے پے در پے بھیجے اُس کے بعد کئی رسول

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ^ط

اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اُس کی روح القدس (جبریل) کے ذریعہ،

- روح القدس: یعنی مقدس روح۔ یہ خطاب حضرت جبریل کو اعزاز کے طور پر دیا گیا۔
- یوں تو ہر نبی کی مدد حضرت جبریل کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ہم نے پے در پے بھیجے اُس کے بعد کئی رسول

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اُس کی روح القدس (جبریل) کے ذریعہ،

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک



سوال :- ترجمہ کیجیے : وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ

A اور ہم نے درپے درپے بھیجتے ہیں اُس کے بعد

B اور ہم نے درپے درپے بھیجے اُس کے بعد

C ہم نے درپے درپے بھیجے اُس کے بعد

D ہم نے درپے درپے بھیجے اُن سب کے بعد

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ

A اور ہم نے درپے درپے بھیجتے ہیں اُس کے بعد

B اور ہم نے درپے درپے بھیجے اُس کے بعد

C ہم نے درپے درپے بھیجے اُس کے بعد

D ہم نے درپے درپے بھیجے اُن سب کے بعد

سوال :- بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور دیگر انبیاء کے ساتھ
----- کا رویہ رکھا۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A نہایت بد تمیزی

B محبت

C انکار

D اطاعت

سوال :- بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور دیگر انبیاء کے ساتھ
----- کا رویہ رکھا۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A نہایت بد تمیزی

B محبت

C انکار

D اطاعت

سوال :- جبریل امینؑ اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو۔۔۔۔۔ انہیں ”روح القدس“ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں

B لوگوں کی طرف وحی لاتے ہیں

C اللہ کے محبوب بندے ہیں

D انبیاء کے پاس وحی لاتے ہیں

سوال :- جبریل امینؑ اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو۔۔۔۔۔ انہیں ”روح القدس“ بھی کہا جاتا ہے۔
ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں

B لوگوں کی طرف وحی لاتے ہیں

C اللہ کے محبوب بندے ہیں

D انبیاء کے پاس وحی لاتے ہیں

الحمد لله



أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس (تو) تم نے تکبر کیا

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ


موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس (تو) تم نے تکبر کیا

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔

R-5s-10-Loud



أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس (تو) تم نے تکبر کیا

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔

- بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں۔ ان میں بغاوت و سرکشی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس (تو) تم نے تکبر کیا

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک



سوال :- ترجمہ کیجیے : لَا تَهْوَىٰٓ اَنْفُسَكُمْ

A نہ چاہتے تھے ان کے نفس

B چاہتے تھے تمہارے نفس

C نہ چاہتا تھا تمہارا نفس

D نہ چاہتے تھے تمہارے نفس

سوال :- ترجمہ کیجیے : لَا تَهْوَىٰٓ اَنْفُسَكُمْ

A نہ چاہتے تھے ان کے نفس

B چاہتے تھے تمہارے نفس

C نہ چاہتا تھا تمہارا نفس

D نہ چاہتے تھے تمہارے نفس

سوال :- ترجمہ کیجیے : اسْتَكْبَرْتُمْ

A وہ سب تکبر کرتے ہے

B ہم تکبر نہیں کرتے ہیں

C (تو) تم نے تکبر کیا

D تم تکبر کرتے ہو

سوال :- ترجمہ کیجیے : اسْتَكْبَرْتُمْ

A وہ سب تکبر کرتے ہے

B ہم تکبر نہیں کرتے ہیں

C (تو) تم نے تکبر کیا

D تم تکبر کرتے ہو

الحمد لله



وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

ایمان لاتے ہیں۔

چنانچہ کم لوگ ہی

ان کے کفر کے سبب،

لعنت کی ان پر اللہ نے

بلکہ

R-5s-10-Loud



وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰؑ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

- بنی اسرائیل نے کہا: ”ہمارے دل غلافوں میں ہیں“۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدہ میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدہ کو ہلا نہیں سکتی چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰؑ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

- بنی اسرائیل نے کہا: ”ہمارے دل غلافوں میں ہیں“۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدہ میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدہ کو ہلا نہیں سکتی چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔
- اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

- بنی اسرائیل نے کہا: ”ہمارے دل غلافوں میں ہیں“۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدہ میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدہ کو ہلا نہیں سکتی چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔
- اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔
- تصور کیجیے کہ جب اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ استغفر اللہ!

حدیث

• زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

اے اللہ! میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا

ہوں۔ (ترمذی: ۳۵۹۱)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔



سوال :- ترجمہ کیجیے : لَعْنَهُمُ اللّٰهُ

A اللہ لعنت نہیں کرتا ہے ان پر

B لعنت کی ان پر اللہ نے

C اللہ لعنت کرے گا ان سب پر

D اللہ نے لعنت کی اس پر

سوال :- ترجمہ کیجیے : لَعْنَهُمُ اللّٰهُ

A اللہ لعنت نہیں کرتا ہے ان پر

B لعنت کی ان پر اللہ نے

C اللہ لعنت کرے گا ان سب پر

D اللہ نے لعنت کی اس پر

سوال :- بنی اسرائیل نے حضرت محمد ﷺ کی دعوت ----، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

A کی پیروی کی

B کو ٹھکرا دیا

C سے محبت کی

D کی اطاعت کی

سوال :- بنی اسرائیل نے حضرت محمد ﷺ کی دعوت ----، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

A کی پیروی کی

B کو ٹھکرا دیا

C سے محبت کی

D کی اطاعت کی

الحمد لله



وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقَا كَذِّبْتُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

ترجمہ

87۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور اُس کی مدد کی روح القدس (جبریلؑ) کے ذریعہ، کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، سوا ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ

88۔ اور انہوں نے کہا: ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اُن پر اُن کے
کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔



اسباق، دعا اور پلان

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقَا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

موسیٰ و عیسیٰؑ اور
رسولوں سے سلوک

اسباق

- بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بد تمیزی کا رویہ رکھا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔
- انہوں نے حضرت محمد ﷺ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقَا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

موسیٰ و عیسیٰ اور
رسولوں سے سلوک

اسباق

- یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔
- حضرت جبریلؑ اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے۔ انہیں ”روح القدس“ بھی کہا جاتا ہے۔

اے اللہ!

ہمارے دلوں کو تیری ہدایت قبول
کرنے والا بنا۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ
کی سچی پیروی کرنے والا بنا۔



اے اللہ!

ہمارے دلوں کو تیری ہدایت قبول
کرنے والا بنا۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ
کی سچی پیروی کرنے والا بنا۔

مطالعہ و غور و فکر



پلان (مثال کے طور پر):

ان شاء اللہ!

میں اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ

لوں گا اور ان کی بات کو توجہ اور

خاموشی سے سنوں گا۔ ان کی بات

سے اگر غصہ بھی آئے تو ہٹ دھرمی

نہیں کروں گا۔



أفعال أسماء

ان آیات میں

أَسْمَاءُ

کچھ ان میں سے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اسم

اسم

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اسم

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

اسم

فَفَرِّقَنَا كَذِبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

اسم

اسم

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

كِتَاب ← كُتِبَ +
نَفْس ← أَنْفَسَ +

رَسُول ← رُسِلَ +
قَلْب ← قُلُوبَ +

بَيِّنَات ← بَيَّنَّاتُ +
أَغْلَف ← غُلْفَ +

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقَنَا كَذِبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

ن ق ت ل قتل يقتل أقتل قاتل مقتول قتل

ف ل ع ن لعن يلعن إلعن لاعن ملعون لعن

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے صحت مند افعال

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

عَلِمَ



اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

3 حروف والے

کمزور افعال: **وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، ---**

ہمزہ والے افعال: **أَمَرَ، شَاءَ، ---**

یکساں حروف والے افعال: **ظَنَّ، ضَلَّ، ---**

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

زا	ج ي ا	جَاءَ	يَجِيءُ	جِيءُ	جَاءِ	مَجِيءٌ	مَجِيئَةٌ
رض	ه و ي	هَوِيَ	يَهْوَى	إِهْوَى	هَوِ	مَهْوِيٌّ	هَوَى
قا	ق و ل	قَالَ	يَقُولُ	قُلُّ	قَابِلٌ	مَقُولٌ	قَوْلٌ
ضد	ق ل ل	قَلَّ	يَقِلُّ	قِلَّ	قَلِيلٌ	—	قَلٌّ

عَلَّمَ



اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

مزید فیہ افعال

عَلَّمَ، حَاسَبَ، أَسْلَمَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَغْفَرَ
تَدَبَّرَ، تَدَارَسَ، اِنْقَلَبَ

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

TPI?

TPI?

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

TPI?

اَفْكَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْفُسُكُمْ اِسْتَكْبَرْتُمْ

TPI?

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

TPI?

بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

TPI?

عد+ ق ف و قَفِي يُقَفِّي قَفِّ مُقَفِّ مُقَفِّي تَقْفِيَة

عد+ أ ي د أَيَّدَ يُؤَيِّدُ أَيِّدُ مُؤَيِّدُ مُؤَيِّدُ تَأْيِيْدُ

إس+ ك ب ر اِسْتَكْبَرُ يَسْتَكْبِرُ اِسْتَكْبِرُ مُسْتَكْبِرُ مُسْتَكْبِرُ اِسْتِكْبَارُ

عد+ ك ذ ب كَذَّبَ يُكَذِّبُ كَذَّبَ مُكَذِّبُ مُكَذِّبُ تَكْذِيْبُ

أس+ أ م ن اَمِنَ يُؤْمِنُ اَمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ اِيْمَانُ

سوال :- هَوِيَ كَا فَعْل اَمْر بْتَايَ

A يَهُوِي

B اَهُوِي

C اَهُوَا

D هَوِي

سوال :- ھَوِيَ کا فعل امر بتائیے

A يَهُوِي

B اَهُوِي

C اَهُوِي

D هَوِي

سوال :- قَلَّ کا اسم فاعل بتائیے

A قَلِيلٌ

B قَلَّ

C قَلَّ

D يَقِلُّ

سوال :- قَلَّ کا اسم فاعل بتائیے

A قَلِيلٌ

B قَلَّ

C قَلَّ

D يَقِلُّ

سوال :- غُلْف کا واحد بتائیے

A غُلُوف

B أَغْلَفَ

C غِلَافٍ

D غِلَافَةٌ

سوال :- غُلْف کا واحد بتائیے

A غُلُوف

B أَغْلَف

C غِلَاف

D غِلَافَة

الحمد لله





سات ہوم ورک

◀ دو تلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

◀ دو پڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

◀ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

◀ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

◀ اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن
یکھے میں ہماری مدد فرما!



ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔



ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

www.understandquran.com



بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! <

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! <

www.understandquran.com



ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

www.understandquran.com

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

اے اللہ ہمیں

- قرآن پڑھنے،
- سمجھنے،
- غور کرنے،
- عمل کرنے،
- پھیلانے،
- یاد کرنے کی

توفیق دے۔

